

29 مئی 2018

## برامپٹن کے رہائشیوں کو اکتوبر 2018 کے میونسپل الیکشنز میں کام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے 2,000 سے زیادہ الیکشن ورکرز کی بھرتی کا آغاز مورخہ 9 جون کو سیلی برامپٹن سے ہو رہا ہے

برامپٹن، آن - 22 اکتوبر کو منعقد ہونے والے ووٹنگ ڈے پر انتظامات اور کسٹمر سروس کے امور میں مدد فراہم کرنے کے لیے میونسپل الیکشن ورکر بننے کے لیے عوام الناس کی جانب سے 9 جون کے بعد درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 2,000 سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برامپٹن کے رہائشیوں کو ترجیح دی جائے گی۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سیلی برامپٹن کے موقع پر بھرتی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ موقع پر ہی درخواست جمع کرانا چاہتے ہوں یا عملہ سے آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو، تو سٹی ہال کے باہر میونسپل الیکشن کیسک استعمال کریں۔

نئی مہارتیں حاصل کرنے، سٹی کے عملہ کو پہچاننے اور اپنی کمیونٹی سے مربوط ہونے کا یہ سنبھری موقع ہے۔ کئی آسامیاں دستیاب ہیں اور ہر آسامی کے لیے تفصیلی معلومات اس ویب سائٹ [www.brampton.ca/bramptonvotes](http://www.brampton.ca/bramptonvotes) پر دستیاب ہیں۔

### فوری حقائق:

- دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات، 9 جون سے [www.brampton.ca/bramptonvotes](http://www.brampton.ca/bramptonvotes) کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں
- طبع شدہ صورت میں درخواست فارم کی نقل مورخہ 11 جون سے اس پتہ پر دستیاب ہو گی: سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک آفس، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ۔ سٹی کلرک آفس دوران ہفتہ صبح 8:30 تا شام 4:30 تک کھلا رہتا ہے۔
- 22 اکتوبر سے پہلے، کامیاب امیدواروں کو دو تا تین گھنٹوں کی ٹریننگ لینی ہو گی جس میں کلاس کی ٹریننگ اور متعلقہ مواد کا جائزہ لینا بھی شامل ہے اور 22 اکتوبر والے دن 14 گھنٹے تک کام کرنا ہو گا۔
- ٹریننگ اور معاوضہ فراہم کیا جائے گا
- سابقہ تجربہ اور کمپیوٹر میں مہارتوں کو ترجیح دی جائے گی

### اقتباس

"350,000 سے زیادہ اہل ووٹر بیس کے ساتھ، میونسپل الیکشن کے کامیاب انعقاد کے لیے الیکشن ورکرز کی معاونت نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ایسے طلباء بھی درخواست دے سکتے ہیں جنہیں میونسپل گورنمنٹ میں کام کا تجربہ درکار ہو، مقامی تجربہ کے حصول کے لیے برامپٹن میں تشریف لانے والے نئے لوگ بھی درخواست دے سکتے یا ایسے رہائشی درخواست دے سکتے ہیں جو کمیونٹی میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہوں۔ خدمت کے جذبے سے سرشار تمام خواتین و حضرات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ درخواست دیں۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) اور [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) فیس بک۔ مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔

